

# Seattle Police Department Body-Worn Video Program (جسم پر لگانے والے ویڈیو کیمرے کا پروگرام)



## پروگرام کا ہدف

## دائرہ کار

- 850 فرنٹ-لائن، سبھی حلقوں کے یونیفارم والے افسران کیمرے پہنیں گے
- کچھ خصوصی یونٹس SWAT خصوصی اسلحہ اور حکمت عملی، موٹر سائیکل ٹریفک آفیسرز، وغیرہ کیمرے پہنیں گے
- گشتی کاریں بدستور ان گشتی کاروں سے منسلک ویڈیو کیمرے کا استعمال کریں گی۔
- SPD Seattle Police Department، سینٹل پولیس ڈپارٹمنٹ) میں عوام کا اعتماد بڑھانا اور آفیسر کی کارروائیوں میں زیادہ شفافیت فراہم کرنا۔
- آفیسرز اور عوام کے ممبران درمیان نفاذ قانون سے متعلق باہمی تعامل کی ریکارڈنگ آفیسر کی ذمہ داری اور جرائم کی مؤثر تفتیشات کے لیے قیمتی معلومات فراہم کرتی ہے۔

## سرگزشت

## تفصیلات

- SPD کیمروں، ڈیجیٹل اسٹوریج، اور سافٹ ویئر کے لیے Axon (ایکسون) سے رابطہ کر رہا ہے
- یونیفارم والے آفیسرز اپنے جسم کے اوپری حصے میں کیمرے پہنیں گے
- ویڈیوز کو مرموز کر دیا جائے گا اور انہیں نجی، آف سائٹ سرورز ("کلاؤڈ") میں محفوظ طور پر ذخیرہ کیا جائے گا
- ذخیرہ کردہ ویڈیوز فوٹیج تک راست رسائی صرف مجاز SPD اہلکاروں تک محدود ہے
- خصوصی حالات میں ویڈیوز کو عوامی طور پر یا دوسری ایجنسیوں کو جاری کیا جاسکتا ہے، جس میں ریاستی قانون کے مطابق حساس حصوں کو دھندلا کر دیا جائے گا
- ویڈیو کا اجراء عوام/ذرائع ابلاغ کی درخواست کے سبب، استغاثہ میں ثبوت کے طور پر استعمال کرنے، یا تفتیش کے لیے ہوسکتا ہے
- 2015 کے اوائل میں تجرباتی رہنما منصوبہ – اس میں کیمرے کے استعمال کے ضمن میں عوام اور آفیسر کے ردعمل کی پیمائش کی گئی
- ایک مسابقتی بولی کی کارروائی کے بعد، دسمبر 2016 میں Axon کے ساتھ کیمرے میٹریلز کے لیے معاہدے پر دستخط ہوئے
- پورے محکمے کے استعمال کے لیے معلومات اکٹھا کرنے کی تیاری میں، مغربی حلقے کے ہائیک آفیسرز کے ساتھ تین مہینے کے رہنما پروگرام کا آغاز دسمبر 2016 کو ہوا
- مئی 2017 میں، Department of Justice (محکمہ انصاف) کے ساتھ قانونی طور پر پابند کرنے والے معاہدے کے حصے کے طور پر، SPD کے جسم پر لگائے جانے والے ویڈیو کیمرے کی پالیسی کو ایک فیڈرل جج کے ذریعہ منظوری دی گئی

## موجودہ صورتحال

## کمیونٹی کی شمولیت

- سینٹل سٹی کونسل نے SPD کو پروگرام کے لیے کمیونٹی کی شمولیت کے دو ادوار انجام دینے کی ہدایت دی۔ اس کارروائی میں Seattle Community Police Commission، ACLU اور Coalition Ending Gender-Based Violence جیسی تنظیموں کی جانب سے کمیونٹی کے ممبران کے ساتھ باقاعدہ میٹنگیں، بڑی جماعتوں میں مباحثے (جس میں 90 سے زیادہ کمیونٹی کے ممبران کو مدعو کیا گیا)، اور عوامی میٹنگیں شامل تھیں۔
- سینٹل سٹی کونسل نے فروری 2017 میں پراجیکٹ فنڈز جاری کر دیے
- میئر نے ایگزیکٹیو آرڈر 03-2017 جاری کر کے SPD کو شہری پیمانے پر آفیسر کی تربیت اور جسم پر لگانے والے کیمرے کی تنصیب کا حکم دیا
- کیمروں کو حلقہ بہ حلقہ کی بنیادوں پر درج ذیل نظام الاوقات کے مطابق نصب کیا جا رہا ہے: مغربی حلقہ – ستمبر 2017، شمالی حلقہ – اکتوبر 2017، مشرقی حلقہ – نومبر 2017، جنوبی حلقہ – دسمبر 2017، جنوب مغربی حلقہ – جنوری 2018

## آفیسرز کب ریکارڈنگ شروع/ بند کریں گے

### ریکارڈنگ کی شروعات

- 911 کی کال پر روانہ ہونے پر
- ٹریفک اور معقول شبہ ("ٹیری اسٹاپ") پر روکتے وقت
- آفیسر کو مجرمانہ سرگرمی نظر آئے
- گرفتاری اور ضبطیاں
- گاڑیوں، افراد، یا احاطوں کی تلاشوں اور جانچ پڑتال کرتے وقت
- مشتبہ نقل و حمل
- گاڑی کا پیچھا کرتے وقت
- مشتبہ افراد، متاثرین، اور گواہ سے سوالات کرتے وقت

### ریکارڈنگ بند

- گھر کا مکین یا کوئی ایسا شخص جسے اس گھر میں رہنے کا حق حاصل ہے آفیسر کو کسی نجی رہائش گاہ میں داخل ہونے سے قبل کیمرا بند کرنے کو کہتا ہے (تاوقتیکہ کوئی جرم نہ ہو رہا ہو یا آفیسر کے پاس وارنٹ نہ ہو)
- آفیسر نے اپنی تفتیش مکمل کر لی ہو
- اس بات کا معمولی امکان ہو کہ آفیسر اس واقعہ میں کسی شخص سے مزید رابطہ کرے گا

## جب آفیسرز ریکارڈنگ نہ کریں والی صورتحال میں ہوں یا انہیں ریکارڈنگ کرنے کا صوابدیدی اختیار ہو

### آفیسرز کو صوابدیدی اختیار ہے کہ وہ ریکارڈنگ کریں یا نہیں

- ایسے مناظر جہاں کسی فرد کی رازداری یا وقار کا احترام کسی واقعہ کو ریکارڈنگ کرنے سے زیادہ اہم ہو، جیسے کہ:
  - قدرتی موت کے مناظر
  - موت کی اطلاع دہی
  - بچے یا جنسی تشدد کے شکار افراد سے انٹرویو
  - ریکارڈنگ کیے جانے سے متعلق ثقافتی یا مذہبی اعتراضات
  - جب جسم پر لگے ویڈیو کیمرے کا استعمال کسی متاثر فرد یا گواہ کے تعاون میں مزاحم یا اسے محدود کرے

### ریکارڈنگ نہ کریں (نفاذ قانون سے متعلق راست مقاصد کے علاوہ، جیسے کہ کوئی جرم ہو رہا ہو)

- حاجت خانوں میں
- جیل میں
- طبی، دماغی صحت، صلاح کاری یا معالجاتی سہولیات کے اندرونی حصوں میں
- گھر کا مکین یا کوئی ایسا شخص جسے اس گھر میں رہنے کا حق حاصل ہے آفیسر کو کسی نجی رہائش گاہ میں داخل ہونے سے قبل کیمرا بند کرنے کو کہتا ہے (تاوقتیکہ کوئی جرم نہ ہو رہا ہو یا آفیسر کے پاس وارنٹ نہ ہو)
- جب افراد قانونی طور پر اپنی آزادی تقریر، پریس، انجمن، میل جول، یا مذہبی امور انجام دے رہے ہوں